

دس گمراہ کن سوالات کے ایمان افروز جوابات

مفتی محمد ابراہیم قادری، سکھر

نفس اسلام

WWW.NAFSEISLAM.COM

دس گمراہ کن سوالات کے

ایمان افروز جوابات

مفتی محمد ابراہیم قادری، سکھر

ایک اسلامی دوست نے ”فلاح کا راستہ“ نامی کتابچہ دکھایا، اس کے آخر میں دس سوالات درج ہیں، ان کا حل پوچھا۔ یہ کتابچہ درحقیقت جھوٹ اور گمراہی کا پلندہ ہے، مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ایسی کتابیں پڑھنے سے اجتناب کریں اور اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے علماء اہل سنت کی کتب کا مطالعہ کریں اور انہیں سے دین کے معاملہ میں رہنمائی حاصل کریں۔ یہ سوالات اس لائق نہیں کہ ان کی طرف التفات کیا جائے، مگر عوام الناس کو مولف کے دجل و فریب سے بچانے کے لیے یہ چند سطریں لکھی جا رہی ہیں۔

سب سے پہلے یہ جاننا چاہیے کہ درحقیقت مشکل کشا، حاجت روا، سمیع و بصیر، عالم و داناء، اللہ جل مجدہ الکریم ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی عنایت سے اپنے بندوں کو مشکل کشائی، حاجت روائی، سمیع و بصیر اور علم و دانش سے حصہ عطا فرمایا ہے۔ مثلاً اس نے ماں باپ کو اپنی اولاد کی مشکلات و حاجات میں معاون بنایا، جیسا کہ اس پر آیت کریمہ شاہد ہے:

﴿كَمَا رَبَّيْتُ صَفِيرًا﴾ (سورة بنی اسرائیل: آیت ۲۴)

”جیسا کہ میرے والدین نے میرے بچپن میں میری تربیت کی“۔۔۔

حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام مادرزاد اندھوں، کوڑھیوں کو ٹھیک کرتے اور مردوں کو زندہ کرتے تھے، یہ بھی اعلیٰ درجہ کی مشکل کشائی و حاجت روائی ہے، جسے قرآن کریم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا:

﴿وَأَبْرَأُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ (سورة آل عمران: آیت ۴۹)

”اور میں مادرزاد اندھوں اور کوڑھیوں کو ٹھیک کرتا ہوں اور مردوں کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے“۔۔۔

سمیع و بصیر اور علم و دانش جیسی صفات کا بندوں کو حاصل ہونا تو ایسا بدیہی امر ہے، جس کا سائل بلکہ کوئی جاہل سے جاہل بھی

انکار نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

﴿فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ (سورة الدھر: آیت ۲)

”ہم نے انسان کو سننے والا، دیکھنے والا کیا“۔۔۔

اور سمع و بصر کو علم لازم ہے، لہذا فرماتا ہے:

﴿عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾ (سورة العلق: آیت ۵)

”انسان کو وہ کچھ سکھایا، جسے وہ نہیں جانتا تھا“۔۔۔

اور یہ بھی جاننا چاہیے کہ موت جسم پر آتی ہے، روح پر نہیں آتی۔ جسم مر جاتا ہے مگر روح نہیں مرتی، نہ ہی روح کے ادراکات ختم ہوتے ہیں، بلکہ پہلے سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں، جب کہ اس پر شرع مطہر شاہد ہے، چنانچہ احادیث طیبہ میں آیا ہے کہ اہل قبور ہمارا سلام سنتے ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں۔ علم و ادراک، قوت و تصرف کا اصل محل و مقام روح ہے، جسم نہیں اور جسم کے لیے قرب و بعد ہے، روح کے لیے نہیں۔ وہاں بعد بھی قرب ہے اور اس کی دلیل ارواح کا سلام سننا اور ان کا جواب دینا ہے۔ اگر روح جنت میں ہے تو وہاں سے وہ آواز سن لیتی ہے۔

اور یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ بندگانِ خدا، مددِ الہی کا وسیلہ ہیں۔ اصل مددگار اللہ تعالیٰ ہے۔ وسیلہ کی طرف قول کی نسبت عرف و شرع میں معروف ہے۔ کہا جاتا ہے بارش نے سبزہ اُگایا، حالاں کہ درحقیقت اللہ تعالیٰ نے اگایا، مگر بارش وسیلہ ہے، اس لیے اگانے کی نسبت بارش کی طرف کی جاتی ہے۔ ایسے ہی کہا جاتا ہے کہ ماں باپ نے پالا، حالاں کہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے پالا۔ مادرزاد اندھوں اور کوڑھیوں کو شفا دینے والا اللہ تعالیٰ ہے اور مردوں کو زندہ کرنے والا بھی اللہ ہے، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوں کہ حلّ مشکلات و حاجات میں وسیلہ ہیں، اس لیے ان افعال کی نسبت اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف فرمائی۔ چنانچہ فرماتا ہے:

﴿وَتُبْرِئُ الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِي﴾ (سورة المائدہ: آیت ۱۱۰)

”اور آپ اچھا کرتے تھے مادرزاد اندھوں اور کوڑھی کو میرے حکم سے اور قبروں سے مردوں کو نکال کر زندہ کرتے تھے

میرے حکم سے“۔۔۔

ان تمہیدی کلمات کے بعد بعونہ تعالیٰ سوالات اور ان کے جوابات بالترتیب ملاحظہ ہوں:

سوال نمبر 1

اگر اللہ کے سوا کوئی اور ہستی مشکل حل کر سکتی ہے تو بتائیے کہ سائل اور مشکل کشا کے درمیان ہزاروں میل کی دوری پر وہ زندگی میں یا زندگی کے بعد قبر میں آواز سن سکتا ہے؟

جواب

جیسا کہ پہلے آچکا ہے کہ حقیقی مشکل کشا اللہ جل مجدہ الکریم ہے اور اس کی عطا سے اس کے اصحاب کمال بندے مشکل حل فرما سکتے ہیں اور اہل حاجت کی آواز کو باذن اللہ سن سکتے ہیں، اگرچہ دونوں کے درمیان ہزاروں میل کا فاصلہ ہو۔ جیسا کہ پہلے آچکا ہے کہ سننے کی اصل صلاحیت روح میں ہے اور روح قبر میں مقید نہیں، جیسا کہ سائل نے گمان کیا ہے۔ مرنے کے بعد روح کے کمالات پہلے سے کہیں بڑھ جاتے ہیں اور اس کا ہر کام خرق عادت و کرامت کے طور پر ہوتا ہے۔ اس پر چند دلائل ملاحظہ ہوں:

(۱) احادیث صحیحہ میں آیا ہے کہ سیدنا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب جنگل میں تمہاری کوئی چیز گم ہو جائے اور تمہیں مدد کی ضرورت محسوس ہو تو کہو:

يَا عِبَادَ اللَّهِ اَعِينُونِي، يَا عِبَادَ اللَّهِ اَعِينُونِي، يَا عِبَادَ اللَّهِ اَعِينُونِي۔ (معجم کبیر للطبرانی بحوالہ حصین، صفحہ ۱۱۰، مطبوعہ مصر)

”اے اللہ کے بندو! میری مدد کرو، اے اللہ کے بندو! میری مدد کرو، اے اللہ کے بندو! میری مدد کرو۔“

(۲) حافظ ابن کثیر نے ”البدایہ والنہایہ“ میں لکھا ہے کہ جنگ یمامہ میں حضرات صحابہ و تابعین کرام ﷺ نے

مشکلات جنگ میں حضور سید عالم ﷺ کو پکارتے ہوئے استغاثہ کیا اور اس مشکل میں فریاد کی۔ حافظ ابن کثیر کے الفاظ ملاحظہ ہوں، فرماتے ہیں:

وَنَادَى بِشَعَارِ الْمُسْلِمِينَ وَكَانَ شَعَارُهُمْ يَوْمَئِذٍ يَا مُحَمَّدًا۔ (البدایہ والنہایہ، جلد ۶، صفحہ ۳۲۳، مطبوعہ بیروت)

”حضرت خالد بن ولیدؓ نے مسلمانوں کا مخصوص نعرہ لگایا اور اس دن لشکر اسلام کی نشانی یہ تھا، يَا مُحَمَّدًا۔“

یعنی اے محمد کریم! ہماری مدد فرمائیں۔

ان دونوں حدیثوں سے معلوم ہوا کہ ارباب کمال سے استمداد جائز ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ارواح کے لیے اللہ تعالیٰ قریب و بعید کا فرق مٹا دیتا ہے اور ہزاروں میل سے امداد کرنا ان کے لیے سہل بنا دیتا ہے۔ اسی بنا پر علامہ علی قاری حنفی علیہ الرحمہ فرماتے

ہیں:

لَا تَأْتِي الْأَمْوَالَ إِلَّا بِالْحَرَمِ عَلَى حَرْقِ الْعَادَةِ - (مرقاۃ شرح مشکوٰۃ، جلد ۱، صفحہ ۳۵۴، مطبوعہ مکہ مشرفہ)

”کیوں کہ آخرت کے معاملات خلافِ عادت و کرامت پر مبنی ہیں“ ---

سوال نمبر 2

اگر بالفرض یہ ثابت ہو جائے کہ وہ اتنے فاصلے پر آواز سن سکتا ہے، تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ دنیا کی ہر زبان سے واقف ہے یا نہیں؟ مثلاً سرائیکی والا سرائیکی میں مشکل پیش کرے گا، اسی طرح جرمن، جرمنی زبان میں، انگریز، انگریزی زبان میں اور پٹھان، پشتو زبان میں آواز دے گا۔

جواب

احادیث صحیحہ میں آیا، جنہیں اصحاب صحاح ستہ نے بھی روایت کیا کہ جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے پاس دو فرشتے منکر نکیر نامی آتے ہیں اور اس سے تین سوال کرتے ہیں۔ مردہ ان سوالوں کا جواب دیتا ہے، کوئی صحیح جواب دیتا ہے کوئی غلط۔ علماء نے لکھا کہ یہ سوالات عربی یا عبرانی زبان میں ہوں گے اور مردے کو وہ زبان آجائے گی۔ علامہ علی قاری علیہ الرحمہ نے عربی کو ترجیح دیتے ہوئے لکھا:

﴿وَلَوْ كَانَ الْمَوْتُ أَعْجَبِيًّا صَارَ عَرَبِيًّا﴾ - (مرقاۃ شرح مشکوٰۃ، جلد ۱، مطبوعہ مکہ مشرفہ صفحہ ۳۵۰)

”اگر مردہ عجیب ہوگا، جب بھی وہ عربی ہو جائے گا“ ---

جب مرنے کے بعد عام مومن و کافر دوسری زبان سمجھ سکتے ہیں، تو ارواحِ صالحین کا بعد از وصال دوسری زبانوں کو سمجھنا کیوں کر بعید ہو سکتا ہے۔

اور احادیثِ طیبہ میں آیا ہے کہ جب کوئی عورت دنیا میں اپنے شوہر سے لڑائی کرتی ہے، اسے تکلیف پہنچاتی ہے تو جنت کی حور جو اس کے لیے نامزد ہے، کہتی ہے:

لَا تُؤَدِّيهِ قَاتِلِكَ اللَّهُ فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكَ دَعِيمٌ يُؤْشِكُ أَنْ يُفَارِقَكَ إِلَيْنَا - (مشکوٰۃ شریف، بحوالہ ترمذی)

”اللہ تجھے ہلاک کرے، اسے تکلیف نہ دے، وہ تیرے پاس چند روزہ مہمان ہے، عن قریب وہ تجھ سے جدا ہو کر

ہمارے پاس آنے والا ہے“ ---

اس حدیث کی رو سے آدمی کی عورت سرائیکی، پشتو، انگریزی، سندھی زبان میں اس سے لڑائی جھگڑا کرے، جنت کی حور اس

کی زبان سمجھ لیتی ہے۔ معلوم ہوا کہ عالم آخرت کے معاملات وہی اور خلافِ عادت ہیں، انہیں اس دنیا کے معاملات پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔ یہاں جو امور کسی ہیں، وہ وہاں محض وہی ہو جاتے ہیں۔

سوال نمبر 3

اگر یہ بات ثابت بھی کر دی جائے کہ وہ ہستی ہر زبان سے واقف ہے، تو پھر سوال پیدا ہوگا کہ اگر ایک لمحہ میں سیکڑوں یا ہزاروں لوگ اپنی مشکل اس کے سامنے پیش کریں تو کیا وہ ان سب کی مشکلات اس لمحہ میں سن اور سمجھ لے گا یا اس کے لیے قطار بنانے کی ضرورت پیش آئے گی؟

جواب

روح کے لیے یہ بھی مشکل نہیں کہ وہ ایک لمحہ میں ہزاروں آوازوں کو سنے اور ان میں امتیاز پیدا کرے۔ اس پر شرعی شواہد موجود ہیں۔ ملاحظہ کیجیے:

(۱) احادیثِ کریمہ میں آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

مَا مِنْ أَحَدٍ يَمُرُّ بِقَبْرِ أَخِيهِ الْمُؤْمِنِ كَانَ يَعْرِفُهُ فِي الدُّنْيَا فَيَسَلِّمُ عَلَيْهِ إِلَّا عَرَفَهُ وَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ - (شفاء السقام
فی زیارۃ خیر الانام، صفحہ ۸۸، مکتبہ نوریہ فیصل آباد)

”جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی قبر پر سے گزرے، جو اسے دنیا میں جانتا تھا اور اسے سلام کرے تو وہ اسے اب بھی پہچانتا ہے اور سلام کا جواب دیتا ہے۔“

(۲) حضرت ابو زینؓ نے آقا مولا ﷺ سے عرض کیا:

”یا رسول اللہ! میرے راستے میں قبرستان پڑتا ہے، یا رسول اللہ! میں وہاں سے گزرا کروں تو کیا پڑھوں؟“

آپ نے ارشاد فرمایا، کہو:

﴿السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْقُبُورِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ أَنْتُمْ لَنَا سَلْفٌ وَنَحْنُ لَكُمْ تَبِعٌ وَإِنَّا إِن
شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَآحِقُونَ﴾

پھر حضرت ابو زینؓ نے عرض کیا:

يَا رَسُولَ اللَّهِ! يَسْمَعُونَ؟

”یا رسول اللہ! کیا مردے سنتے ہیں؟“ ---

فرمایا:

يَسْمَعُونَ وَلَكِنْ لَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يُجِيبُوا ---

”سنتے ہیں، مگر جواب نہیں دے سکتے“ ---

امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث کے تحت تحریر فرماتے ہیں:

أَيُّ جَوَابًا يَسْمَعُهُ الْحَيُّ وَالْأَمْوَاتُ يَرُدُّونَ حَيْثُ لَا يُسْمَعُ - (شرح الصدور باحوال الموتى والقبور، صفحہ ۸۴)

”حدیث کے معنی یہ ہیں کہ مردے ایسا جواب نہیں دیتے، جسے زندہ سن لے، ورنہ وہ سلام کا ایسا جواب تو دیتے

ہیں جو ہمیں سنائی نہیں دیتا“ ---

ان دونوں حدیثوں سے واضح ہوا کہ اگر قبرستان سے گزرنے والے لوگ سیکڑوں ہزاروں کی تعداد میں ہوں، جب بھی عامہ

اہل قبور ان سب کا سلام سنتے ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں۔ پھر ارباب کمال کے کیا کہنے، پھر سید المرسلین ﷺ کے کیا کہنے۔

چٹاں چہ:

③ رسول اللہ ﷺ ارشاد فرماتے ہیں:

مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلَّا رَدَّ اللَّهُ عَلَيَّ رُوحِي حَتَّىٰ أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ - (مشکوٰۃ شریف، باب الصلوٰۃ علی النبی

ﷺ)

”مجھے جو کوئی مسلمان سلام عرض کرتا ہے، اللہ تعالیٰ مجھ پر میری روح لوٹا دیتا ہے، حتیٰ کہ میں اس کے سلام کا جواب

مرحمت فرماتا ہوں“ ---

④ حافظ ابن قیم حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

مَا مِنْ عَبْدٍ يُصَلِّي عَلَيَّ إِلَّا بَلَغَنِي صَوْتُهُ حَيْثُ كَانَ قُلْنَا وَبَعْدَ وَقَاتِكَ؟ قَالَ وَبَعْدَ وَقَاتِي، إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيَّ

الْأَرْضَ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ - (جلاء الافہام، صفحہ ۶۴، مطبوعہ بیروت)

”جو بندہ مجھ پر درود بھیجتا ہے، وہ جہاں کہیں ہو مجھ تک اس کی آواز پہنچتی ہے۔ ہم نے عرض کیا اور آپ کی وفات کے

بعد بھی؟ فرمایا، میری وفات کے بعد بھی، (کیوں کہ) اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء علیہم السلام کے اجسام کا کھانا حرام کر

دیا ہے۔۔۔

یہ بات ہر ذی شعور جانتا ہے کہ دن رات میں ایسا کوئی لمحہ نہیں گزرتا جس میں ہزار ہا انسان، جنات، ملائکہ حضور سید الخلق ﷺ کے حضور میں درود و سلام نہ عرض کرتے ہوں۔ سرکار ﷺ ان درودوں کو سنتے ہیں، سلاموں کو سماع کا شرف بخشتے ہیں اور پھر جواب سے نوازتے ہیں۔

معلوم ہوا ارواح کے لیے مختلف و متعدد آوازوں کو سننا کچھ دشوار نہیں۔ آپ کے خیالِ فاسد کی بنیاد یہ ہے کہ آپ نے برزخ کو دنیا پر قیاس کیا، حالاں کہ برزخ کے معاملات دنیا سے یک سر مختلف ہیں۔ دنیا کے معاملات کسی محض ہیں اور برزخ کے امور وہی۔ یہاں جو امور روح کو حسبِ عادت حاصل ہوتے ہیں، عالمِ برزخ میں بطورِ خرقِ عادت حاصل ہوتے ہیں۔ صرف قبر کو لے لیجیے کہ دنیا میں اگر کوئی شخص قبرِ جنتی جگہ کو اختیار کرے گا، تنگی کے ساتھ بیٹھے گا، مگر برزخ میں یہی جگہ اس کے لیے سترِ گز تک وسیع کر دی جاتی ہے۔ چاروں طرف سے بند کرے میں ہوا کا راستہ بھی نہ ہو، اندر کی آواز باہر اور باہر کی اندر نہیں جاسکتی مگر قبر والا جس پر منوں ٹنوں مٹی ڈال دی گئی، جو توں کی آواز کو سنتا ہے۔

سوال نمبر 4

کیا اس ہستی کو کبھی نیند بھی آتی ہے یا وہ ہمیشہ جاگتا رہتا ہے؟ اگر کبھی نیند آتی ہے تو پھر ہمارے پاس ایک لسٹ ہونی چاہیے کہ کب اس کو نیند آتی ہے اور کب وہ جاگ رہا ہوتا ہے، تاکہ ہم اپنی مشکل صرف اس وقت پیش کریں جب کہ وہ سو نہ رہا ہو یا وہ نیند میں بھی سنتا ہے؟

جواب

موت بدن کو آتی ہے روح کو نہیں آتی، روح ہمیشہ زندہ رہتی و باقی رہے گی۔ چنانچہ احادیثِ شریفہ میں آیا ہے کہ مردہ اپنے نہلانے والے، کفنانے والے، جنازہ اٹھانے والے اور قبر میں اتارنے والے کو پہچانتا ہے اور پہچاننا بدن کا نہیں روح کا کام ہے، جب روح کے ادراکات، علم، سمع، بصر، مرنے کے بعد بھی قائم ہیں، تو اسے کب موت آئی؟ ہاں موت بدن پر آتی ہے اور نیند موت کی چھوٹی بہن ہے، لہذا اسی کو آئے گی جسے موت آئے گی اور جو موت سے مبرا ہے، وہ نیند سے بھی پاک ہے۔ حدیثِ پاک میں ہے، رسول اللہ ﷺ ہمارا شاد فرماتے ہیں:

إِنَّ الْمَوْتَ يَعْرِفُ مَنْ يَغْسِلُهُ وَيَحْمِلُهُ وَمَنْ يَكْفِنُهُ وَمَنْ يُدْلِيهِ فِي حُفْرَتِهِ - (مسند امام احمد بن حنبل،

جلد ۳، صفحہ ۳، مطبوعہ بیروت

”مردہ اسے پہچانتا ہے جو اسے غسل دیتا ہے اور جو اسے اٹھاتا ہے اور جو اسے کفن پہناتا ہے اور قبر میں اتارتا

ہے“---

سوال نمبر 5

ایک شخص بولنے سے قاصر ہے، وہ ایسی مشکل میں مبتلا ہے کہ اس کا گلابند ہو چکا ہے، اگر وہ دل ہی دل میں اپنی مشکل پیش کرے، تو کیا وہ اس کی دلی فریاد بھی سن لے گا؟

جواب

جب ارواح کا ملین ہزاروں لاکھوں میل کی دوری سے دیکھ سکتی ہیں اور آوازیں سن سکتی ہیں تو بہ عطاء الہی خلق خدا کے قلبی احوال اور بدنی احوال پر کیوں نہیں مطلع ہو سکتیں؟ حدیث شریف میں ہے:

إِتَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ - (ترمذی شریف، جلد ۲، صفحہ ۶۱۴)

”مومن کی فراست سے ڈرو، کیوں کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے“---

اس کی تشریح میں مولانا وحید الزمان رقم طراز ہیں:

”مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے اور دلوں کے اندر کی حالت معلوم کر لیتا ہے“ - (لغات الحدیث، باب

القاء مع الرء)

علامہ ابن حجر ہیتمی ”فتاویٰ حدیثیہ“ میں فرماتے ہیں:

وَسُئِلَ بَعْضُهُمْ عَنِ الْفِرَاسَةِ فَقَالَ أَرْوَاحٌ تَتَقَلَّبُ فِي الْمَلَكُوتِ فَتَشْرَفُ عَلَى مَعَانِ الْغُيُوبِ فَتَنْطِقُ عَنْ أَسْرَارِ

الْخَلْقِ نُطْقَ مُشَاهِدَةٍ وَعَيَانٍ لَا نُطْقَ ظَنٍّ وَحُسْبَانٍ - (فتاویٰ حدیثیہ، صفحہ ۴۱۱)

”بعض علماء سے فراست کے معنی پوچھے گئے، تو فرمایا، کچھ روحیں ملکوت میں سیر کرتی ہیں، تو غیبی امور پر مطلع ہو

کر خلق کے مخفی احوال کی خبریں دیتی ہیں اور ان کا اسرارِ خلق میں کلام فرمانا، مشاہدہ و معاینہ پر مبنی ہوتا ہے نہ کہ ظن و گمان

پ“---

علامہ علی قاری حنفی علیہ الرحمہ نے شرح مشکوٰۃ کے متعدد مقامات پر اہل ایمان کے نورِ فراست کے کئی واقعات درج فرمائے ہیں،

یہاں ایک واقعہ درج کیا جاتا ہے۔ علامہ علی قاری علیہ الرحمہ حضرت امام یافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے لکھتے ہیں:

”امام الحرمین ابوالمعالی بن امام ابو محمد جوینی ایک بار نماز فجر کی ادائیگی کے بعد مسجد میں بیٹھے درس دے رہے تھے کہ وہاں سے بعض صوفیہ کا اپنے اصحاب کے ساتھ گزر ہوا، جو کسی دعوت پر تشریف لے جا رہے تھے:

فَقَالَ الْإِمَامُ فِي نَفْسِهِ مَا شَغَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا الْأَكْلُ وَالرَّقِصُ؟ فَلَمَّا رَجَعَ الشَّيْخُ مِنَ الدَّعْوَةِ مَرَّ عَلَيْهِ فَقَالَ يَا فِقِيهًا مَا تَقُولُ فِيْمَنْ يُصَلِّي الصُّبْحَ وَجُنُبٌ وَيَقْعُدُ فِي الْمَسْجِدِ وَيَدْرُسُ الْعُلُومَ وَيُغْتَابُ النَّاسَ؟ فَتَذَكَّرَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ أَنَّهُ كَانَ عَلَيْهِ غُسْلٌ ثُمَّ حَسُنَ اعْتِقَادُهُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الصُّوفِيَّةِ— (مرقاۃ شرح مشکوٰۃ، جلد ۳، صفحہ ۸۹، مطبوعہ مکہ مکرمہ)

”امام الحرمین نے دل ہی دل میں کہا کہ ان لوگوں کا کام صرف دعوتیں اڑانا اور رقص کرنا ہے؟ پھر جب شیخ دعوت سے فارغ ہو کر وہاں سے گزرے تو فرمایا، اے فقیہ! تیرا اس شخص کے بارے میں کیا فتویٰ ہے، جو حالت جنابت میں صبح کی نماز ادا کرتا ہے اور مسجد میں بیٹھ کر علوم شرعیہ کا درس دیتا ہے اور لوگوں کی غیبت کرتا ہے؟ یہ سن کر امام الحرمین کو یاد آیا کہ ان پر غسل جنابت باقی ہے۔ اس کے بعد امام الحرمین حضرات صوفیہ سے حسن عقیدت رکھنے لگے۔“

آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بعض بندوں کو کیسا نور باطن عطا فرماتا ہے کہ وہ صرف لوگوں کے قلبی خطرات پر ہی مطلع نہیں ہوتے بلکہ ان کے وہ احوال جن سے وہ خود غافل ہوتے ہیں، اہل اللہ آگاہ ہوتے ہیں۔

معلوم ہوا جن کا نور بصیرت ایسا شان دار ہو، وہ احوال خلق کو جاننے کے لیے چیخ و پکار کے محتاج نہیں ہوتے بلکہ وہ لوح قلب پڑھ کر پراگندہ حال لوگوں کی دست گیری فرمایا کرتے ہیں۔

سوال نمبر 6

انسان کو پیدائش سے لے کر موت تک چھوٹی بڑی تمام مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، اگر وہ تمام مشکلات اللہ تعالیٰ حل کر سکتا ہے، تو پھر غیر خدا کی طرف توجہ کرنے کی کیا ضرورت ہے اور اگر غیر ان تمام مشکلات کو حل کرنے پر قادر ہے تو پھر اللہ کی کیا حاجت؟

جواب

ہر مشکل چھوٹی ہو یا بڑی، اللہ تعالیٰ ہی حل فرماتا ہے۔ اس کے بندے اس کی مدد کا ذریعہ و وسیلہ ہیں۔ جیسے شفا اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور وہی اپنے بندوں کو پالتا ہے مگر ڈاکٹر، حکیم و سیلہ شفا ہیں اور ماں باپ وسیلہ تربیت ہیں اور مسائل سمیت پوری دنیا کے لوگ

وسائل کی طرف رجوع کرتے ہیں اور نظام دنیا و مسائل و اسباب ہی کے بل بوتے پر چل رہا ہے۔ یہی حال اولیاء و انبیاء کا ہے کہ وسیلہ امداد خداوندی ہیں اور خلق خدا انہیں وسیلہ و ذریعہ اعتقاد رکھتے ہوئے ان کی طرف رجوع کرتی ہے۔ اگر کوئی سائل سے اس کے الفاظ میں پوچھے کہ انسان کو پیدائش سے لے کر موت تک چھوٹی بڑی بیماریوں کا سامنا ہوتا ہے، اگر تمام بیماریاں اللہ تعالیٰ دور کر سکتا ہے تو پھر ڈاکٹر حکیم کی طرف رجوع کرنے کی کیا ضرورت اور اگر ڈاکٹر حکیم ان بیماریوں کے دور کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں، تو پھر اللہ کی کیا حاجت؟ فہما ہو جو ابکم فہو جو ابنا

سوال نمبر 7

اگر غیر اللہ مشکل کشا تمام مشکلات حل کرنے پر قادر نہیں، تو ہو سکتا ہے کہ کچھ مشکلات حل کرنے کا بیڑا اللہ نے اٹھایا ہو اور کچھ مشکلات حل کرنے کے اختیارات کسی غیر کو دے رکھے ہوں، ایسی صورت میں تو ہمارے پاس یہ فہرست ہونی چاہیے کہ کون سی مشکلات اللہ حل کرنے پر قادر ہے اور کون سی مشکلات غیر حل کر سکتا ہے، تاکہ سائل اپنی مشکل اس کے سامنے پیش کر سکے جو اس کے حل کرنے پر قادر ہو۔

جواب

اگرچہ اس بے ہودہ سوال کا جواب، سوال نمبر ۶ کے جواب میں آچکا ہے، مگر مزید وضاحت کے لیے اس کا اعادہ کیا جاتا ہے کہ اس بندر بانٹ سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ ہر چھوٹی بڑی مشکل کا حل اسی کے پاس ہے، یہاں تک کہ احادیث طیبہ میں آیا کہ جب تیرا نمک ختم ہو جائے تو اللہ سے مانگ اور تیرا تسمہ ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگ۔ الحمد للہ اہل سنت کا عمل اسی پر ہے کہ اصل مددگار اللہ تعالیٰ ہے اور اس کے بندے چھوٹے اور بڑے کاموں میں اس کی مدد کے مظہر ہیں اور ان کی مدد درحقیقت اللہ تعالیٰ کی مدد ہے۔ مگر ہمارا مشاہدہ یہ ہے کہ وہابی اس حکم شرع پر عمل نہیں کرتا۔ وہ نمک اللہ تعالیٰ کی بجائے دکان دار سے مانگتا ہے اور تسمہ بھی دکان دار سے یا موچی سے مانگتا ہے اور چندہ اغیار سے مانگتا ہے، کیا یہ مشکلات اللہ تعالیٰ حل نہیں کر سکتا؟ اگر کر سکتا ہے تو پھر حل مشکلات کے لیے غیر اللہ کے پاس کیوں جاتا ہے؟ ہاں اگر وہابی دریا میں ڈوب رہا ہے اور قریب میں کوئی سہارا دینے والا ہو تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ وہابی اسے ماتحت الاسباب میں داخل کر کے بندوں کو خدا کا شریک گردانتا ہوا بلکہ بندوں کی مدد کو خدا کی مدد سے اعلیٰ سمجھتا ہوا صرف بندے سے مدد کا طلب گار ہوگا اور اس کی توحید میں کچھ بگاڑ نہیں آئے گا۔ ہاں اگر دور دور تک اسے کوئی نجات دہندہ دکھائی نہ دے تو ایسے میں وہ سوائے اللہ کے کسی اور کو نہیں پکارے گا۔ اب ہم تم سے تمہاری ہی زبان میں پوچھتے ہیں

کہ کچھ کاموں میں تم غیر اللہ سے مدد مانگتے ہو اور کچھ میں صرف اللہ تعالیٰ سے۔ کیا تم نے کوئی فہرست مرتب کر رکھی ہے، جسے سامنے رکھ کر کچھ مشکلات میں غیر اللہ سے مدد مانگتے ہو، کچھ میں اللہ تعالیٰ سے؟

شرم تم کو مگر نہیں آتی

سوال نمبر 8

کیا اللہ کے سوا جو ہستی مشکل سے نکال سکتی ہے، وہ مشکل میں ڈال بھی سکتی ہے یا اس کی ڈیوٹی صرف حل کرنے پر ہے؟ اگر وہ مشکل حل کر سکتی ہے تو پھر ڈالنے والا کون ہے؟

جواب

مشکل سے نکالنا یا مشکل میں ڈالنا، کسی کو نفع دینا یا ضرر و نقصان پہنچانا، اس کا حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہے اور اللہ جل شانہ جسے چاہے اپنے حکم سے نافع و ضار بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے شہد کو شفا دینے والا، کھانے کو بھوک مٹانے والا اور پانی کو پیاس بجھانے والا بنایا، زمین کو پھوننا اور آسمان کو چھت بنایا تو یہ سب نافع ہوئے اور سانپ بچھو کو موذی بنایا، زہر کو قاتل اور بد عقیدہ کو ستم قاتل بنایا تو یہ سب مضر ہوئے اور ان سب کا نفع و ضرر بہ حکم خدا ہے۔ اس پر قرآن وحدیث کے شواہد ملاحظہ ہوں:

(الف) اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

﴿وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ - ۲۰..... (سورة البقرہ: آیت ۱۰۲)

”اور جادوگر، جادو سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اللہ کے حکم سے“ ---

(ب) ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعَةٌ لِلنَّاسِ﴾ - ۲۱..... (سورة الحديد: آیت ۲۵)

”اور ہم نے لوہے کو پیدا کیا، اس میں بڑی طاقت ہے اور لوگوں کے لیے طرح طرح کے فائدے ہیں“ ---

(ج) حضور سید عالم ﷺ ارشاد فرماتے ہیں:

مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَنْفَعْهُ - (حم، م، ہ، - عن جابر، (صح) جامع صغیر، ج ۲، ص ۱۶۲)

”تم میں سے جو شخص اپنے بھائی کو نفع پہنچانے کی طاقت رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ وہ نفع پہنچائے“ ---

(۱) غزوہ حنین میں جب لشکر کفار نے رسول اللہ ﷺ کو گھیرا تو آپ نے اپنی سواری سے اتر کر ایک مشت خاک لی

اور ”شَاهَتِ الْوُجُوهُ“ (چہرے بگڑ گئے) فرما کر ان سب کی طرف خاک پھینکی:

فَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْهُمْ إِنْسَانًا إِلَّا مَلَأَ عَيْنِيهِ تُرَابًا بِتِلْكَ الْقُبْضَةِ فَوَلَّوْا مُدْبِرِينَ فَهَدَمَهُمُ اللَّهُ - (مشکوٰۃ شریف،

صفحہ ۵۳۳)

”لشکرِ کفار میں ایسا کوئی انسان نہیں تھا، جس کی دونوں آنکھیں نہ بھر گئی ہوں، پھر وہ پیٹھ دکھا کر بھاگ گئے اور اللہ

تعالیٰ نے انھیں شکست دی“ ---

(۲) جب سیدنا رسول اللہ ﷺ نے کسریٰ شاہِ ایران کو نامہِ گرامی بھیجا اور اس نے نامہِ مبارکہ کو پھاڑ دیا، تو سرکار

ﷺ نے اس کے ردِ عمل میں یہ جملہ ارشاد فرمایا:

أَنْ يَمْزُقُوا كُلَّ مَمْزُقٍ - (بخاری شریف، جلد ۱، صفحہ ۱۵)

”ان کے کھل طور پر کھڑے کھڑے کر دیے جائیں“ ---

زبانِ کریم سے یہ جملے جاری ہوئے کہ مختصر عرصہ میں کسریٰ کے بیٹے نے اسے قتل کر دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے سلطنتِ ایران کی

اینٹ سے اینٹ بچ گئی۔

(۳) جنگِ یمامہ میں شدائدِ جنگ کے دوران صحابہ و تابعین نے منکرینِ ختمِ نبوت کے خلاف رسول اللہ

ﷺ سے ”يَا مُحَمَّدَا“ کہہ کر نصرت و اعانت چاہی۔ اگر یہاں صرف ”يَا مُحَمَّدَا“ ہوتا جب بھی مطلوب ثابت تھا، مگر ”يَا

مُحَمَّدَا“ میں الفِ استغاثہ کا ہے۔ ان اہلِ توحید نے خیر القرون کے زمانہ میں دشمنانِ دین کے خلاف محمد کریم ﷺ کو

مستغاث و مستعان بنایا۔

(۴) آقا و مولیٰ ﷺ نے شام کے ابدالوں کے بارے میں فرمایا:

يُسْتَعَىٰ بِهِمُ الْغَيْثُ وَيُنْصَرُّ بِهِمُ عَلَى الْأَعْدَاءِ وَيُصْرَفُ عَنْ أَهْلِ الشَّامِ بِهِمُ الْعَذَابُ - (مشکوٰۃ شریف، صفحہ ۵۸۳)

”ان کی برکت سے بارشیں ہوتی ہیں، ان کے وسیلے سے دشمنوں پر فتح نصیب ہوتی ہے اور ان کے با برکت وجود سے

اہلِ شام سے عذاب ٹلتے ہیں“ ---

(۵) حضرت سیدنا عمرؓ کے عہدِ خلافت میں حضرت ساریہؓ کے زیرِ قیادت ایک لشکرِ نہادند کے مقام پر، جو کہ

مدینہ طیبہ سے تقریباً اڑھائی ہزار کلومیٹر دور ہے، لشکرِ کفار سے برسرِ پیکار تھے۔ دشمن کا ایک دستہ پہاڑ کے عقب سے حملہ کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے، ادھر حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ منبرِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑے خطبہ جمعہ دے رہے ہیں، اس دوران میں نقشہ جنگ نگاہوں میں ہے۔ قبل اس کے کہ دشمن اپنا منصوبہ پایہ تکمیل کو پہنچائے، آپ نے قائدِ لشکر حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ کو خطرہ سے آگاہ کرتے ہوئے تین بار باوازِ بلند ”يَا مَسَارِيَةَ الْكَجَبَلِ“ فرمایا، جس پر حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ نے بھی منصوبہ بندی فرما کر لشکرِ اسلام کو شکست سے بچا لیا۔ (مشکوٰۃ شریف، باب الکرامات/تاریخ الخلفاء للسیوطی)

معلوم ہوا کہ محبوبانِ خدا صرف مشکل کشا ہی نہیں ہوتے، بلکہ بسا اوقات باذنِ الہی دشمن کو مشکل، ہلاکت و بربادی اور ذلت و خواری سے دوچار کر سکتے ہیں۔

سوال نمبر 9

بالآخر نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ مشکلات ڈالنے والا اور غیر اللہ مشکل حل کرنے والا ہے۔ بالفرض ایک ہستی مشکل ڈالنے پر مقرر ہو اور دوسری حل کرنے پر تو دونوں میں سے کون سی ہستی اپنا فیصلہ واپس لے گی؟

جواب

یہ سوال سائل کا محض دھوکا ہے، جو اپنی جہالت یا تجاہل سے یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب بندوں میں طاقت تقسیم ہے، بعض چیزوں کی طاقت اللہ کے پاس ہے اور بعض کی طاقت بندوں کے پاس ہے۔ چوں کہ یہ ایک طاقت کا مالک ہے اس لیے ان میں تصادم ممکن ہے اور اس تصادم کے نتیجے میں اگر ایک ہستی غالب آگئی تو دوسری کو اپنا فیصلہ واپس لینا ہوگا۔ حالاں کہ دنیا میں کوئی مسلمان اللہ اور بندے میں طاقت کی تقسیم کا قائل ہے، نہ ہی ان میں تصادم کا۔ طاقت کا منبع اور سرچشمہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور محبوبانِ خدا کی طاقت اس کی عطا کردہ ہے۔ وہ اپنی طاقت کے استعمال میں سرکش اور خدا کے مد مقابل نہیں بلکہ اپنی طاقت کے استعمال میں اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ یہ ایسا عقیدہ ہے جس کا انکار نہیں کرے گا مگر زندگی اور بے دین۔ اب پہلے قرآنی دلائل سے مقبولانِ خدا کی طاقت کا جائزہ لیجیے، پھر ان کا طاقت کے استعمال میں ماذون من اللہ ہونے پر قرآنی نصوص کا مشاہدہ کیجیے:

۱۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ ﷻ نے ہوا کو ان کے قابو میں کر دیا تھا اور ان کے حکم سے چلتی تھی۔ چنانچہ قرآن کریم میں ہے:

(سورة السبا: آیت ۱۲)

﴿وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوها شَهْرًا وَرَوَاحَهَا شَهْرًا﴾

”اور ہم نے ہوا کو (حضرت) سلیمان (ﷺ) کے قابو میں دے دیا، صبح کی منزل ایک ماہ اور شام کی منزل ایک

ماہ“---

ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے:

(سورة ص: آیت ۳۶)

﴿فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ﴾

”ہم نے ہوا (حضرت) سلیمان (ﷺ) کے قابو میں دے دی کہ وہ ان کے حکم سے نرم نرم چلتی ہے“---

اور سورة الانبياء میں ان کے تسخیری کمال کا اس طرح ذکر ہوتا ہے:

(سورة الانبياء: آیت ۸۱)

﴿وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا﴾

”اور (حضرت) سلیمان (ﷺ) کے لیے تیز ہوا قابو کر دی کہ وہ ان کے حکم سے بابرکت زمین کی طرف چلتی

تھی“---

۲۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے حضرت سیدنا داؤد (ﷺ) کے لیے لوہا نرم کر دیا تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

(سورة سبا: آیت ۱۰)

﴿وَالنَّالَةَ الْحَدِيدَ﴾

”اور ہم نے (حضرت) داؤد کے لیے لوہا نرم کر دیا“---

۳۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا عیسیٰ (ﷺ) کو مادرزاد اندھوں اور کوڑھیوں کو ٹھیک کرنے اور مردوں کو زندہ کرنے کی طاقت

بخشی اور حضرت سیدنا عیسیٰ (ﷺ) نے اس خداداد طاقت کا اعلان کیا اور قرآن کریم نے اس اعلان کو ان الفاظ میں بیان فرمایا:

(سورة آل عمران: آیت ۴۹)

﴿وَأَبْرِي الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾

”اور میں مادرزاد اندھوں اور کوڑھی کو ٹھیک کرتا ہوں اور مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کرتا ہوں“---

۴۔ صاحب سلیمان (ﷺ) کو دو ماہ کی مسافت پر رکھے ہوئے عظیم الجثہ تختِ بلقیس کو پلک جھپکنے سے کم وقت میں لانے کی

طاقت دی گئی۔ اللہ تعالیٰ اپنے اس صاحب کمال بندے کا قول اپنے برحق کلام میں اس طرح نقل فرماتا ہے:

(سورة نمل: آیت ۳۹)

﴿أَنَا أَنبِئُكَ بِهٖ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ﴾

”میں تختِ بلقیس کو آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کر دوں گا“---

۵۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ طاقتوں کا ذکر فرمایا، تو اس کے ساتھ ”بِإِذْنِ اللّٰهِ“ کی قید بھی ذکر فرمائی اور اللہ تعالیٰ بروز قیامت جب حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر کیے گئے احسانات گنوائے گا، تو ان انعامات و اکرامات کے ذکر کے ساتھ ”إِذْنِ“ کا ذکر بطور خاص فرمائے گا۔ چنانچہ قرآن کریم میں ہے:

﴿وَتَبَرَّئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِي﴾ (سورة المائدة: آیت ۱۱۰)

”اور آپ اچھا کرتے تھے مادرزاد اندھوں اور کوڑھی کو میرے حکم سے اور قبروں سے مردوں کو نکال کر زندہ کرتے تھے میرے حکم سے“ ---

۶۔ سورة الکہف میں صاحبِ موسیٰ (حضرت خضر) علیہا السلام کے کمالات کا جب ذکر آیا، تو انہوں نے بعض تکوینی

کمالات کے سلسلے میں فرمایا:

﴿وَمَا فَعَلْتَهُ عَنْ أَمْرِي﴾ (سورة الکہف: آیت ۸۲)

”یہ سب کچھ میں نے اپنے حکم سے نہ کیا (بلکہ بحکم الہی کیا)“ ---

ان چھ قرآنی حوالوں سے واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کو تکوینی اختیارات سے نوازتا ہے اور یہ کہ وہ ان اختیارات کا استعمال اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف نہیں کرتے کہ تصادم کی صورت پیش آئے، بلکہ وہ ان اختیارات کا استعمال اللہ تعالیٰ کے حکم سے کرتے ہیں۔

WWW.NAFSEISLAM.COM

سوال نمبر 10

کسی بھی برگزیدہ یا گنہگار ہستی کا جنازہ پڑھنا ہو تو اس کی بخشش کے لیے اللہ کو آواز دی جائے یا مشکل کشا کو؟

جواب

یہ سوال بھی جہالت و لاعلمی پر مبنی ہے۔ کیوں کہ:

●..... کیا دنیا کے کسی خطہ میں کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے بھی طلبِ گارِ مغفرت ہوتا ہے؟

●..... کیا ہر بالغ مسلمان کے جنازہ میں ”اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيَاتِنَا وَ مَيِّتِنَا وَ شَاهِدِنَا وَ غَائِبِنَا..... الخ“ نہیں پڑھا جاتا؟

گناہوں کی بخشش صرف اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ﴿وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللّٰهُ﴾ (سورة آل عمران: آیت ۱۳۵)

ہاں اس کے بندوں کی دعا کی برکت سے بسا اوقات اللہ تعالیٰ میت کی بخشش فرما دیتا ہے اور نمازِ جنازہ اسی لیے مشروع ہوا کہ

بندگانِ خدا سب کے لیے بارگاہِ خدا میں مغفرت کی سفارش کریں اور وہ کریم ان کی سفارش کی لاج رکھ کر میت سے عفو و درگزر کا معاملہ فرمائے۔

اللَّهُمَّ ارِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَارْزُقْنَا اتِّبَاعَهُ وَارِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ
وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

